


THRIVING AGAINST THE ODDS



Navigating Challenges, Driving Growth

**Interim Financial Report
for the nine months ended
September 30, 2024**



Pak Elektron Limited

CONTENTS

02	Corporate Information
03	Directors' Review

CONDENSED INTERIM FINANCIAL INFORMATION

10	Condensed Interim Statement of Financial Position
12	Condensed Interim Statement of Profit or Loss
13	Condensed Interim Statement of Changes in Equity
14	Condensed Interim Statements of Cash Flows
15	Notes to the Condensed Interim Financial Statements

CORPORATE INFORMATION

Board of Directors

Mr. M. Naseem Saigol Chairperson	Non-Executive Director
Mr. Muhammad Murad Saigol Chief Executive Officer	Executive Director
Mr. Muhammad Zeid Yousuf Saigol	Executive Director
Syed Manzar Hassan	Executive Director
Mr. Anjum Nisar	Non-Executive Director
Ms. Sadaf Kashif	Independent, Non-Executive Director
Mr. Muhammad Kamran Saleem	Independent, Non-Executive Director
Mr. Shahid Iqbal Choudhri	Non-Executive Director (nominated by NBP)

Audit Committee

Mr. Muhammad Kamran Saleem	Chairperson
Mr. M. Naseem Saigol	Member
Syed Manzar Hassan	Member
Ms. Sadaf Kashif	Member

Human Resources and Remuneration Committee

Mr. Muhammad Kamran Saleem	Chairperson
Syed Manzar Hassan	Member
Ms. Sadaf Kashif	Member

Company Secretary

Muhammad Omer Farooq

Chief Financial Officer

Syed Manzar Hassan - FCA

Auditors

Rahman Sarfaraz Rahim Iqbal Rafiq
Chartered Accountants
A member of Russell Bedford International

Legal Advisors

M/s Hassan & Hassan Advocates

Shariah Advisor

Mufti Altaf Ahmad

Shares Registrar

Corplink (Private) Limited
Wings Arcade,
1-K, Commercial Model Town,
Lahore
T: +92 42 35916714
F: +92 42 35869037
E: shares@corplink.com.pk

Company Incorporation No.

0000802

National Tax No. [NTN].

2011386-2

Status of Company

Public Interest Company

Stock Exchange Symbol

PAEL

Bankers

Albaraka Bank (Pakistan) Limited
Askari Bank Limited
Bank Alfalah Limited
Bank Islami (Pakistan) Limited
Bank Makramah Limited
Faysal Bank Limited
First Habib Modaraba
Habib Bank Limited – Islamic Banking
MCB Bank Limited
National Bank Limited
OLP Modaraba
Pak Brunei Investment Company Limited
Pak China Investment Company Limited
Pak Libya Holding company (Private) Limited
Pak Oman Investment Company Limited
Samba Bank Limited
Saudi Pak Industrial and Agriculture Investment Company Limited
Silk Bank Limited
Sindh Bank Limited
The Bank of Khyber
The Bank of Punjab
United Bank Limited

Registered Office

17-Aziz Avenue, Canal bank,
Gulberg V, Lahore
T: +92 42 35718274-6
F: +92 42 35762707
E: shares@saigols.com

Islamabad Office

Office no. 301, 3rd Floor,
Green Trust Tower,
Blue Area, Islamabad
T: +92 51 2813021-22

Karachi Office

Ground Floor Baig Tower
Near Balouch Colony Bridge,
Shahrah-e-Faisal
Karachi.
T+92 21-32200951-4

Manufacturing Unit I

14 KM Ferozepur Road
Lahore
T: +92 42 35920151-9

Manufacturing Unit II

34 KM Ferozepur Road
Keath Village, Lahore
T: +92 42 35935151-2

DIRECTORS' REVIEW

Dear Share Holders

Your directors are pleased to present the un-audited interim financial information of the Company for the 3rd Quarter ended on September 30, 2024.

FINANCIAL & OPERATIONAL REVIEW

Macro –Economic Environment

Global Economic Overview

Fitch Ratings expects world growth at 2.7% in 2024, 0.1 percentage higher than the June 2024 forecast. The growth has been revised on the basis of improved outlook for the US, UK, Brazil and Russia. China to experience 4.5% growth in 2025 as rapid export growth eases. Eurozone growth will recover to 1.5% in 2025 from 0.8% this year. This mainly reflects the impact of a recovery in real wages, which has been weak since 2022.

Global commodity prices contracted mainly due to decline in energy prices led by crude oil and natural gas – food and metal prices also eased in August. The J.P.Morgan Global Composite Output Index –posted 52.8 in August, up from 52.5 in July and above the neutral 50.0 mark for the tenth month in a row. Global growth accelerates as service sector expansion offsets manufacturing weakness. The global expansion is also evident through the Composite Leading Indicator (CLI) position of Pakistan's main export markets of US, UK, China and euro area. The Food Price Index stood at 120.7 points in August 2024, marginally down from its revised figure for July at 121 points, as decreases in the price indices for sugar, meat and cereals outweighed increases in vegetable oils and dairy products. This value is 1.1% lower on YoY basis.

The Federal Reserve Open Market Committee has started interest rate cut and decided to reduce the federal fund rate by 50 basis points in a target range of 4.75%-5.00%. The decision was based on solid economic growth and labor market with a positive outlook and declining inflationary pressures.

Domestic Economic Landscape

Pakistan's economy is indicating positive developments during the first two months of FY2025 as most of the economic indicators have shown improvement. Inflation has dropped to single digit, industrial output has increased, and large exporting sectors have witnessed growth, reflecting an optimistic outlook for exports. The current account deficit contracted, while the fiscal sector remained resilient, mainly attributed to prudent measures. This trajectory is expected to continue in the coming months.

LSM output increased by 2.4 percent in July 2024, rebounding from a contraction of 5.4 percent in July 2023, reflecting improved market conditions and policy support. During the period, 14 out of 22 sectors witnessed positive growth which includes, Textile, Food, Beverages, Wearing Apparel, Coke & Petroleum Products, Chemicals, Automobiles and Paper & Board. Textile, with the largest weight in LSM turned positive after 24 months.

CPI inflation receded to single digit, lowest in 34 months in August 2024, recorded at 9.6 percent on year-on-year basis compared to 27.4 percent in the same month last year. On MoM basis, it increased by 0.4 percent in August 2024 compared to an increase of 2.1 percent in the previous month and an increase of 1.7 percent in August 2023.

In July, the net federal revenues grew by 7.2 percent to Rs 408.4 billion from Rs 380.9 billion last year. The growth in revenues has been realized on the back of 22.6 percent increase in tax collection and 20.5 percent rise in non-tax collection. Consequently, the fiscal deficit recorded at 0.3 percent of GDP as against 0.2 percent of GDP in the same month of last year. Primary balance managed to post a surplus of 0.1 percent of GDP compared to 0.3 percent of GDP last year.

The external account position has strengthened due to improved exports and remittances nevertheless imports also increased. During Jul-Aug FY2025, the current account registered a deficit of \$ 0.2 billion compared to \$ 0.9 billion last year however, it recorded a surplus of \$ 75 million in August 2024. During Jul-Aug FY2025, export of goods increased by 7.2 percent, reaching \$ 4.9 billion, while imports stood at \$ 9.5 billion, compared to \$ 8.4 billion last year leading to a trade deficit of \$ 4.7 billion. The service exports grew to \$1.2 billion (0.2%) and imports declined to \$ 1.7 billion (0.5%), resulting in a trade deficit of \$ 0.47 billion compared to \$ 0.48 billion last year. Foreign Direct Investment (FDI) stood at \$ 350 million, 55.5 percent up from the previous year.

DIRECTORS' REVIEW

Amid diminishing inflationary pressures, improved inflation expectations and business confidence, the Monetary Policy Committee (MPC) cut the policy rate by 200 basis points to 17.5 percent in its decision held on September 12, 2024. During 1st July – 30th August FY2025, money supply (M2) shows negative growth of 2.6 percent (Rs. -962.3 billion) compared to negative growth of 1.4 percent (Rs. -449.5 billion) last year. In September 2024, the KSE-100 index hovered around 80,000 points and closed at 81,114 points at month end. During the month, the KSE-100 index gained 2,626 points.

The Large-Scale Manufacturing (LSM) sector in Pakistan recorded a modest growth of 0.92% during the fiscal year 2023-24 (July-June) compared to the previous year.

Pakistan Bureau of Statistics reports 7MCY24 YOY production quantum decline of Refrigerators by 24.61%, Air Conditioners by 36.48%, LED TVs by 14.01%. However Deep Freezers production quantum increased by 8.25% due to growing demand of customized products in dairy and bottling sector. Contrary demand of electrical equipment continued to grow, supported by ongoing government efforts to enhance electricity transmission and distribution infrastructure. Power division products showed year-on-year production quantum increase in Energy Meters by 2.25% a decrease in Transformers and Switch Gears by 18.68% & 17.91% respectively.

Company Performance Overview

In the first nine months of FY24, the company recorded revenues of Rs. 54,766 million, representing an 43.54% increase compared to the same period last year. Gross profit reached to Rs. 10,967 million, a notable 34.79% growth from Rs. 8,136 million in the same period last year, with the gross profit of 26.52% of net sales, slightly down from 26.55%. Profit after taxation increased by 96.83%, amounting to Rs. 1,862 million, while earnings per share doubled from Rs. 1.07 to Rs. 2.14. This was achieved mainly due to volumetric growth and increased product demand along with enhanced customer service. Political & economic stability also contributed positively to the company's performance.

Summary of operating results is presented below:

Rupees in million	Nine months ended September 30, 2024	Nine months ended September 30, 2023	Increase/ (Decrease)	Percentage %
Revenue	54,766	38,155	16,611	43.54
Gross Profit	10,967	8,136	2,831	34.80
Finance Cost	2,928	2,862	68	2.38
Profit/(Loss) before taxation	3,192	1,729	1,463	84.62
Profit/(Loss) after taxation	1,862	946	916	96.83
Earnings/(Loss) Per Share (Rupees)	2.14	1.07		

Appliances Division

The Home Appliances Division has achieved a growth in the first nine months of FY24, with revenues increasing by 81.86% to Rs. 31,875 million, compared to Rs. 17,527 million during the same period last year. This growth can be attributed primarily to the easing of import restrictions, which has significantly enhanced the division's supply chain and production capabilities. The stability of the political & economic environment has also played a key role, fostering economic stability and improving consumer confidence. Additionally, effective inflation control has helped maintain disposable income levels, enabling consumers to spend more on home appliances. These combined factors have contributed to the division's performance and are expected to continue driving growth in the near future. This, alongside improved supply chains and favorable economic conditions, has significantly contributed to our strong performance, positioning us for continued success in the future.

Power Division

The Power sector of Pakistan has engulfed with challenges with dire need of improvement in electricity distribution network of the country, notably due to the increasing circular debt. This challenge has highlighted key areas for improvement, such as reducing infrastructure losses, curbing pilferage and enhancing billing recovery. We see these issues as opportunities to our business which gives Power Division of our Company a sustainable outlook. By prioritizing the upgrade of transmission and distribution (T&D) infrastructure and introducing advanced, tamper-proof metering systems, we are laying the foundation for more efficient billing processes and improved overall performance.

The Power Division has achieved revenues of Rs. 22,892 million, marking an increase of 10.98% compared to Rs. 20,628 million in the same period last year. This growth highlights our strong market position and operational resilience, demonstrating our ability to navigate tough conditions while continuing to deliver value.

Additionally, the manufacturing capacities across all Power Division products are well-equipped to meet growing demand. With the easing of import restrictions and ongoing economic stabilization, we anticipate further increases in both revenue and profit. This positions the division to capitalize on emerging opportunities and sustain its growth momentum.

Since its inception in 1956, the company has been engaged in the manufacturing and sales of electrical equipment, developing exceptional capabilities over the years. These include a highly skilled team of professionals, state-of-the-art manufacturing and testing facilities, and a long-standing history of strong customer relationships with WAPDA utility companies. With this robust foundation, the company is confident in further strengthening its position as a key market player in the industry.

Future Outlook

Global Economic Outlook

The global economy has continued to display remarkable resilience in the face of a historic rise in interest rates. Our global economic outlook estimates GDP growth of a modest 3.1% in 2024, slightly accelerating to 3.2% in 2025, largely mirroring the 3.1% growth rate from 2023. While we anticipate a slight GDP growth acceleration across advanced economies from 1.5% in 2023 to 1.6% in 2024 and 1.8% in 2025, we expected a simultaneous slight deceleration among emerging markets from 4.2% in 2023 to 4.1% in 2024 and 2025.

Across emerging markets, a structural slowdown is expected in mainland China to offset robust momentum in India and a slight growth acceleration across the Latin America, Middle East and North Africa (MENA) regions in 2025.

Country Economic Outlook

In the fiscal year 2024-2025, the Government of Pakistan faces a daunting task of addressing numerous socio-economic challenges that have significantly impacted the lives of its people. With pervasive issues such as high inflation, soaring prices, stagnant incomes, escalating taxes, and exorbitant utility costs, the average Pakistani is grappling with a daily struggle to make ends meet. These economic hardships are compounded by a deteriorating law and order situation, necessitating a new military operation Azm-e-Istihkam against criminal elements.

This confluence of economic and security challenges demands urgent and effective policy interventions from the state to alleviate the suffering of its citizens and restore stability. The government's fiscal policies, including budgetary allocations and monetary interventions, play a crucial role in managing inflationary pressures. Effective management of fiscal deficits, prudent monetary policies, and targeted subsidies for vulnerable populations are essential measures to curb inflation and ease the burden on the populace.

Company Future Outlook

The Company in the FY 2024 has budgeted to achieve a total revenue of Rs. 68,676 million, out of which in the period under review it is able to achieve Rs. 54,766 million, which is 79.75%.

Company Matters of Significance

Incorporation of a wholly owned subsidiary in UAE

The Board of Directors of the Company in its meeting held on April 04, 2024 has accorded its approval for incorporation of a wholly owned foreign subsidiary in the UAE, subject to all applicable regulatory approvals. The subsidiary will be primarily engaged in commercial trading with import, export, distribution and warehousing as its ancillary activities.

Acknowledgement

We would like to thank our Board of Directors for continuous support and guidance. We are also thankful to our team for their dedicated efforts to make the company operationally sustainable through this challenging era.

DIRECTORS' REVIEW

We are confident with continued team efforts that we will meet expectation of all stake holders i.e., Shareholders, Creditors and Customers.

On behalf of the Board of Directors

Lahore
October 17, 2024

M. Murad Saigol
Chief Executive Officer

ڈائریکٹرز کا جائزہ

محترم شیئر ہولڈرز

آپ کے ڈائریکٹرز بمسرت 30 ستمبر 2024 کو ختم ہونے والی تیسری سہ ماہی کے لیے کمپنی کی غیر آڈٹ شدہ عبوری مالی گوشوارہ جات پیش کر رہے ہیں۔

مالیاتی اور پیداواری جائزہ

میکرو معاشی حالات

عالمی معاشی جائزہ

یچ رکھنے کے مطابق عالمی معیشت کی ترقی 2024 میں 2.7 فیصد رہنے کی توقع ہے جو کہ جون 2024 کی پیش گوئی سے 0.1 فیصد زیادہ ہے۔ شرح میں تھریڈی امریکی، برطانوی، برازیلی اور روسی معیشت کے بہتر امکانات کی بنیاد پر نظر ثانی کے بعد کی گئی ہے۔ چین میں 2025 میں 4.5 فیصد کی نمو متوقع ہے جس کی وجہ برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہے۔ یوروزون کی نمو 2025 میں اس سال کے 0.8 فیصد سے بڑھ کر 1.5 فیصد ہو جائے گی۔ یہ بنیادی طور پر حقیقی اجرتوں میں بحالی کے اثرات کی عکاسی کرتی ہے جو کہ 2022 سے کم رہی ہیں۔

عالمی اشیاء کی قیمتیں بنیادی طور پر توانائی کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے کم ہوئیں جس میں خام تیل اور قدرتی گیس شامل ہیں۔ اگست میں خوراک اور دھاتوں کی قیمتیں بھی کم ہوئیں۔ بے پنی مورگن کا عالمی مجموعی پیداوار انڈیکس اگست میں 52.8 رہا جو جولائی میں 52.5 سے بڑھا اور مسلسل دس مہینے سے 50.0 کے بنیادی نشان سے اوپر ہے۔ عالمی ترقی میں تیزی آ رہی ہے کیونکہ خدمات کے شعبے میں بہتری میونسکپلنگ کے شعبے کی کمی کے اثرات کو زائل کر رہی ہے۔ عالمی نمونہ میں پاکستان کی اہم برآمدی منڈیوں جیسے امریکہ، برطانیہ، چین اور یورپی علاقے کے سی ایل آئی کی پوزیشن سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ فوڈ پرائس انڈیکس اگست 2024 میں 120.7 پوائنٹس پر رہا جو جولائی میں نظر ثانی شدہ 121 پوائنٹس سے معمولی طور پر کم ہے کیونکہ چینی، گوشت اور تاج کی قیمتوں میں کمی نے خوردنی تیل اور دودھ کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو کم کر دیا ہے۔ یہ قدر سالانہ بنیاد پر 1.1 فیصد کم ہے۔

فیڈرل ریزرو اوپن مارکیٹ کمیٹی نے شرح سود میں کمی کا آغاز کر دیا ہے اور فیڈرل فنڈ ریٹ کو 50 پوائنٹس کم کر کے 4.75 فیصد سے 5.00 فیصد کے ہدف کی حد میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ مضبوط معاشی ترقی، مثبت لیبر مارکیٹ اور افراط زر کے دباؤ میں کمی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔

ملکی معاشی جائزہ

پاکستان کی معیشت مالی سال 2025 کے پہلے دو مہینوں کے دوران مثبت نمو کی نشاندہی کر رہی ہے کیونکہ زیادہ تر معاشی اعشاریوں میں بہتری آئی ہے۔ افراط زر 21 فیصد سے کم ہو کر ”کانٹی“ میں آ گیا ہے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور بڑے برآمدی شعبوں میں نمو دیکھی گئی ہے جو برآمدات کے شعبے میں بہتری کی نشاندہی کرتی ہے۔ موجودہ کھاتے کا خسارہ کم ہوا جبکہ مالیاتی شعبہ میں بہتری آئی جس کی بنیادی وجہ طاقا اقدامات ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ رجحان آنے والے مہینوں میں جاری رہے گا۔

بڑے پیمانے کی صنعتوں (LSM) کی پیداوار میں جولائی 2024 میں 2.4 فیصد کا اضافہ ہوا۔ جو کہ جولائی 2023 کے 5.4 فیصد کی کمی کے مقابلے میں ایک بھر پور اضافہ ہے۔ جو کہ بہتر مارکیٹ کے حالات اور موثر حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اس دوران 22 سے 14 شعبوں میں مثبت ترقی دیکھنے کو ملی جن میں ٹیکسٹائل، خوراک، مشروبات، لباس، کوک اور پیپر و پلم مصنوعات، کیمیکلز، آٹوموبائلز، اور کاغذ و گتے کی صنعتیں شامل ہیں۔ ٹیکسٹائل کی صنعت جو کہ بڑے پیمانے کی صنعتوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں بھی 24 ماہ کے بعد پہلی بار مثبت نمو دکھائی دی ہے۔

اگست 2024 میں سی پی آئی افراط زر 9.6 فیصد کی سطح پر پہنچ گیا جو 34 مہینوں میں سب سے کم ہے۔ یہ پچھلے سال کے اسی مہینے میں 27.4 فیصد کے مقابلے میں ہے۔ ماہانہ بنیاد پر اگست 2024 میں یہ 0.4 فیصد بڑھا جبکہ پچھلے مہینے میں یہ 2.1 فیصد اور اگست 2023 میں 1.7 فیصد بڑھا تھا۔

جولائی مالی سال 2025 میں خالص وفاقی آمدنی 7.2 فیصد اضافے کے ساتھ 408.4 ارب روپے ہو گئی جو پچھلے سال 380.9 ارب روپے تھی۔ اس آمدنی کے پیچھے 22.6 فیصد ٹیکس اور 20.5 فیصد غیر ٹیکس وصولی شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں مالی خسارہ جی ڈی پی کا 0.3 فیصد ریکارڈ کیا گیا جو کہ پچھلے سال کے اسی مہینے میں جی ڈی پی کا 0.2 فیصد تھا۔ پرائمری بیلنس میں 0.1 فیصد کا بہتر پلس آ یا جو پچھلے سال جی ڈی پی کے 0.3 فیصد کے مقابلے میں کم ہے۔

بیرونی کھاتے کی صورت حال بہتر ہوئی ہے کیونکہ برآمدات اور ترسیلات میں اضافہ ہوا ہے تاہم برآمدات بھی بڑھی ہیں۔ جولائی تا اگست مالی سال 2025 کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ ذمہ میں 0.2 بلین ڈالر کا خسارہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ پچھلے سال 0.9 بلین ڈالر تھا۔ تاہم اگست 2024 میں 75 بلین ڈالر کا سر پلس ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی تا اگست 2025 میں اشیاء کی برآمدات 7.2 فیصد اضافے کے ساتھ 4.9 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں جبکہ برآمدات 9.5 بلین ڈالر رہیں جو کہ پچھلے سال 8.4 بلین ڈالر تھیں جس کے نتیجے میں 4.7 بلین ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا۔ خدمات کی برآمدات 1.2 بلین ڈالر (0.2 فیصد) تک پہنچ گئیں اور برآمدات 1.7 بلین ڈالر (0.5 فیصد) کم ہو گئیں جس سے 0.47 بلین ڈالر کا تجارتی خسارہ ریکارڈ ہوا جو کہ پچھلے سال 0.48 بلین ڈالر تھا۔ غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری (FDI) 350 بلین ڈالر رہی، جو کہ گذشتہ سال کے مقابلے میں 55.5 فیصد زیادہ ہے۔

افراط زر کے دباؤ میں کمی، بہتر افراط زر کی توقعات اور کاروباری اعتماد کے باعث مائیکرو پالیسی کمیٹی (MPC) نے 12 ستمبر 2024 کو اپنی پالیسی کی شرح 200 پوائنٹس کم کر کے 17.5 فیصد کر دی ہے۔ 1 جولائی سے 30 اگست مالی سال 2025 کے دوران ہنسی سہائی (M2) میں 2.6 فیصد (962.3 ارب روپے) کی منفی نمو ہوئی جو کہ گذشتہ سال 1.4 فیصد (449.5 ارب روپے) کی منفی نمو تھی۔ ستمبر 2024 میں کے ایس ای 100 انڈیکس تقریباً 80,000 پوائنٹس پر ہوا اور مہینے کے آخر میں 81,114 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اس مہینے کے دوران کے ایس ای 100 انڈیکس میں 2,626 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔

ڈائریکٹرز کا جائزہ

پاکستان میں بڑے پیمانے کی صنعتوں (LSM) کی پیداوار میں مالی سال 2023-24 (جولائی سے جون) کے دوران گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 0.92 فیصد کی معمولی نمو ریکارڈ کی گئی پاکستان پورٹس اور ٹرانسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 کے پہلے سات ماہ کے دوران ریلوے پورٹس میں 24.61 فیصد، اینڈ کونڈیشنرز میں 36.48 فیصد اور ایل ڈی ٹی وی کی پیداوار میں 14.01 فیصد کی کمی آئی۔ اس کے برعکس، ڈیپ فریزرز کی پیداوار میں 8.25 فیصد کا اضافہ ہوا ہے جو ڈیڑھ لاکھ ٹونوں کے شعبے میں حسب ضرورت مصنوعات کی بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے ہے۔ حکومت کی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے ڈھانچے کو بہتر بنانے کی کوششوں کی وجہ سے برقی آلات کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاور ڈویژن کی مصنوعات میں بجلی کی میٹرز کی پیداوار میں 2.25 فیصد کا اضافہ ہوا جبکہ ٹرانسفارمرز اور سوئچ گیکٹرز کی پیداوار میں بالترتیب 18.68 فیصد اور 17.91 فیصد کی کمی ہوئی ہے۔

کمپنی کی کارکردگی کا جائزہ

مالی سال 2024 کے پہلے نو مہینوں میں کمپنی کو 54,766 ملین روپے کی آمدنی ہوئی جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 43.54 فیصد زیادہ ہے۔ مجموعی منافع 10,967 ملین روپے تک پہنچ گیا جو پچھلے سال کے اسی عرصے میں 8,136 ملین روپے کے مقابلے میں 34.79 فیصد کا قابل ذکر اضافہ ہے۔ یہ مجموعی منافع خالص فروخت کا 26.52 فیصد بنتا ہے جو کہ پچھلے سال کے 26.55 فیصد سے معمولی کم ہے۔

منافع بعد از ٹیکس 96.83 فیصد اضافے کے ساتھ 1,862 ملین روپے تک پہنچ گیا جبکہ فی شیئر آمدنی 1.07 روپے سے دو گنا ہو کر 2.14 روپے ہو گئی۔ مؤثر آپریشنل حکمت عملیوں بڑھتی ہوئی مصنوعات کی طلب اور بہتر کسٹمر سروس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام نے بھی کمپنی کی کارکردگی میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔

آپریٹنگ نتائج کا خلاصہ درج ذیل ہے:

روپے ملین میں	نومہ پختہ 30 ستمبر 2024ء	نومہ پختہ 30 ستمبر 2023ء	اضافہ / (کمی) فیصد
مجموعی آمدنی	54,766	38,155	43.54
خام منافع	10,967	8,136	34.80
مالی لاگت	2,928	2,862	2.38
منافع قبل از ٹیکس	3,192	1,729	84.62
منافع بعد از ٹیکس	1,862	946	96.83
فی شخص آمدنی روپے	2.14	1.07	

ایپلائنسز ڈویژن

ہوم ایپلائنسز کے شعبے نے مالی سال 2024 کے پہلے نو مہینوں میں 81.86 فیصد کی نمو حاصل کی ہے جس کے تحت آمدنی 31,875 ملین روپے تک پہنچ گئی جو پچھلے سال کے اسی عرصہ کے 17,527 ملین روپے کے مقابلے میں ہے۔ یہ ترقی بنیادی طور پر درآمدی پائینڈیوں میں ترقی کی وجہ سے ہوئی ہے جس نے شعبے کی سپلائی چین اور پیداوار کی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر بہتر بنایا ہے۔ سیاسی ماحول کی استحکام نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے جس سے معاشی استحکام اور صارفین کے اعتماد میں بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ افراط زر پر مؤثر کنٹرول نے قابل خرچ آمدنی میں اضافہ کیا ہے۔ جس سے صارفین کو ہوم ایپلائنسز پر زیادہ خرچ کرنے کا موقع ملا ہے۔

یہ تمام عوامل شعبے کی کارکردگی میں اضافہ کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ مستقبل قریب میں بھی ترقی کی رفتار برقرار رہے گی۔ بہتر سپلائی چینز اور سازگار معاشی حالات نے ہماری بہتر کارکردگی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے جو ہمیں مستقبل میں بھی کامیابی کی راہ پر گامزن کرے گا۔

پاور ڈویژن

پاور ڈویژن کو خاص طور پر بڑھتے ہوئے گزشتہ قرضے کی وجہ سے معاشی دباؤ کا سامنا ہے۔ اس چیلنج نے بہتری کے لیے کچھ اہم شعبوں کو اجاگر کیا ہے جیسے کہ بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کو کم کرنا، بجلی کی چوری روکنا، اور بلوں کی وصولی کو بہتر بنانا۔ ہم مسائل کو اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے مواقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے ترسیل اور تقسیم (T&D) کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور چیمبر چھڑا سے محفوظ میٹرنگ سسٹمز متعارف کروا کر میٹرنگ کے عمل اور مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

معاشی چیلنجز کے باوجود پاور ڈویژن نے 22,892 ملین روپے کی آمدنی حاصل کی ہے جو پچھلے سال کے اسی عرصہ کے 20,628 ملین روپے کے مقابلے میں 10.98 فیصد زیادہ ہے۔ یہ ترقی ہماری مضبوط مارکیٹ کی مثبت اور عملی نلک کو اجاگر کرتی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم مشکل حالات میں بھی کامیابی سے کام کر رہے ہیں اور اپنی خدمات کی قدر برقرار رکھتے ہوئے ہیں۔

اس کے علاوہ پاور ڈویژن کی تمام مصنوعات کی پیداواری صلاحیتیں بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ درآمدی پائینڈیوں میں ترقی اور معاشی استحکام کی وجہ سے ہم آمدنی اور منافع میں مزید اضافے کی توقع کرتے ہیں۔ یہ صورت حال شعبے کو نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے اور اپنی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔

1956 میں اپنے قیام کے بعد سے کمپنی کے آلات کی تیاری اور فروخت میں مصروف رہی ہے اور ان سالوں کے دوران اس نے شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان میں ماہر پیشہ ورانہ افرادی صلاحیت

ڈائریکٹرز کا جائزہ

ٹیم جدید پیداوار اور جانچ کی سہولیات اور واپڈا کی پٹیلمی کمپنیوں کے ساتھ مضبوط صارف تعلقات کی طویل تاریخ شامل ہے۔ اس مضبوط بنیاد کے ساتھ کمپنی صنعت میں ایک اہم مارکیٹ پلیئر کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پراعتماد ہے۔

مستقبل کا منظر نامہ

عالمی معاشی منظر نامہ

عالمی معیشت نے تاریخی طور پر بڑھتی ہوئی سودی شرحوں کے باوجود شاندار چمک کا مظاہرہ جاری رکھا ہے۔ عالمی معاشی منظر نامے کے تخمینے کے مطابق 2024 میں جی ڈی پی کی نمو 3.1 فیصد رہے گی جو 2025 میں تھوڑا سا بڑھ کر 3.2 فیصد ہو جائے گی جو کہ بڑی حد تک 2023 میں 3.1 فیصد نمو کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ معیشتوں میں جی ڈی پی کی نمو میں معمولی اضافہ ہوگا جو 2023 کی 1.5 فیصد سے بڑھ کر 2024 میں 1.6 فیصد اور 2025 میں 1.8 فیصد تک پہنچ جائے گی۔ جبکہ ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں جی ڈی پی کی نمو میں معمولی کمی ہوگی جو 2023 میں 4.2 فیصد سے کم ہو کر 2024 اور 2025 میں 4.1 فیصد تک آجائے گی۔

ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں، چین میں ایک ساختی سست روی کی توقع ہے جو بھارت میں مضبوط ترقی کے ساتھ توازن قائم کرے گی جبکہ 2025 میں لاطینی امریکہ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ (MENA) کے علاقوں میں نمو میں ہلکی سی تیزی دیکھنے کو ملے گی۔

ملکی معاشی منظر نامہ

مالی سال 2024-2025 میں حکومت پاکستان کو متعدد سماجی و اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے جو اس کے عوام کی زندگیوں پر نمایاں اثر ڈال چکے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، قیمتوں میں اضافہ، سکت آمدنی، بڑھتے ہوئے ٹیکس اور بڑھتے ہوئے پٹیلمی بلوں جیسے مسائل عام پاکستانی کے لیے روزمرہ کی زندگی گزارنا مشکل بنا رہے ہیں۔ یہ اقتصادی مشکلات ایک بگڑتی ہوئی قانون و نظم کی صورت حال سے مزید بڑھ گئی ہیں جس کے باعث مجرم عناصر کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی "عزمِ استحکام" کی ضرورت پیش آئی ہے۔

معاشی اور سیکوریٹی چیلنجز کا یہ سنگم ریاست سے فوری اور مؤثر پالیسی مداخلت کا تقاضا کرتا ہے تاکہ شہریوں کی مشکلات کو کم کیا جاسکے اور استحکام بحال کیا جاسکے۔ حکومت کی مالی پالیسیاں بشمول بجٹ کی تقسیم اور مالی مداخلتیں مہنگائی کے دباؤ کو سنبھالنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مالی خساروں کا مؤثر انتظام، دانشمندانہ مالی پالیسیاں، اور کنٹرولر جنرل کے لیے ہدف شدہ سبسڈیز مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور عوام پر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے لازمی اقدامات ہیں۔

کمپنی کا مستقبل کا منظر نامہ

کمپنی نے مالی سال 2024 میں 68,676 ملین روپے کے محصولات حاصل کرنے کا تخمینہ لگا لیا ہے۔ جس میں سے زیر جائزہ مدت میں یہ 54,766 ملین روپے کے محصولات حاصل کر چکی ہے۔ جو کہ مجموعی تخمینہ کا 79.75 فیصد بنتا ہے۔

کمپنی کے اہم معاملات

متحدہ عرب امارات میں Wholly Owned Subsidiary کا قیام

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 04 اپریل 2024ء میں متحدہ عرب امارات میں ایک Wholly Owned Subsidiary کے قیام کی اصولی منظوری دی ہے۔ جس کا قیام وہاں کے تمام قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگا۔ یہ Wholly Owned Subsidiary بنیادی طور پر تجارتی لین وین، درآمدات، برآمدات کے ساتھ ساتھ ڈسٹری بیوشن اور Warehousing جیسی خدمات سرانجام دینے کی اہل ہوگی۔

اعتراف

ہم اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مستقل رہنمائی اور سرپرستی کے لئے ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم اپنے تمام ممبران کے بھی شکر گزار ہیں جن کی کوششوں کے نتیجے میں اس مشکل وقت میں بھی کمپنی معاشی پائیداری کے راستے پر گامزن رہی۔ ہم پر اُمید ہیں کہ ہم کی جاری کوششوں سے تمام اسٹیگ ہولڈرز جیسا کہ حصہ داران، فنانسرز اور صارفین کی توقعات پر پورا اتریں گے۔

لاہور

17 اکتوبر 2024ء

ایم مراد ہگل

چیف ایگزیکٹو آفیسر

Statement of Financial Position (Un- Audited)

AS AT SEPTEMBER 30,2024

	September 30, 2024	December 31, 2023
	<i>Rupees '000'</i>	<i>Rupees '000'</i>
EQUITY AND LIABILITIES		
SHARE CAPITAL AND RESERVES		
Authorized Capital	11,000,000	11,000,000
Issued, subscribed and paid up capital	9,009,697	9,009,697
Share Premium	5,610,856	5,610,856
Revaluation reserve	5,588,357	5,737,289
Retained earnings	23,078,872	21,067,369
	43,287,782	41,425,211
NON-CURRENT LIABILITIES		
Redeemable Capital	-	-
Long term financing	547,085	1,660,209
Lease Liabilities	49,583	34,437
Warranty obligations	172,964	148,939
Deferred taxation	5,000,506	4,900,647
Deferred income	27,393	28,460
CURRENT LIABILITIES		
Trade and other payables	3,032,849	3,230,047
Unclaimed Dividend	10,339	10,668
Accrued interest/ mark up	658,652	640,000
Short term borrowings	14,076,869	12,326,010
Current Portion of Non Current Liabilities	1,458,953	1,953,237
	19,237,662	18,159,962
CONTIGENCIES AND COMMITMENTS		
	-	-
	68,322,974	66,357,865

The annexed notes 1 to 20 form an integral part of these interim financial statements.

M. MURAD SAIGOL
Chief Executive Officer

M. ZEID YOUSUF SAIGOL
Director

SYED MANZAR HASSAN
Chief Financial Officer

	September 30, 2024	December 31, 2023
	<i>Rupees '000'</i>	<i>Rupees '000'</i>
ASSETS		
NON-CURRENT ASSETS		
Property, plant and equipment	28,578,228	28,163,993
Intangible assets	278,897	282,299
Advances for capital expenditure	78,831	64,367
	28,935,956	28,510,659
Long-term investments	19,821	19,268
Long-term deposits	601,709	614,919
Long term advances	726,110	602,921
CURRENT ASSETS		
Stores, spare parts and loose tools	857,738	885,477
Stock-in-trade	11,697,968	11,687,276
Trade debts	15,889,841	14,312,984
Construction work in progress	516,462	615,301
Short Term Advances	3,374,475	3,395,068
Short term deposits and prepayments	1,431,464	1,451,640
Other receivables	206,992	219,718
Short term investments	50,256	32,439
Advance income tax	2,994,645	3,226,079
Cash and bank balances	1,019,537	784,116
	38,039,378	36,610,098
	68,322,974	66,357,865

M. MURAD SAIGOL
Chief Executive Officer

M. ZEID YOUSUF SAIGOL
Director

SYED MANZAR HASSAN
Chief Financial Officer

Statement of Profit or Loss

FOR THE NINE MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Un-Audited)

	Nine Months Period Ended		Three Months Period ended	
	September 30, 2024	September 30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023
	<i>Rupees '000'</i>	<i>Rupees '000'</i>	<i>Rupees '000'</i>	<i>Rupees '000'</i>
Gross Sales	54,766,184	38,154,605	14,903,877	12,410,936
Sales Tax and discount	(13,412,841)	(7,509,856)	(3,635,215)	(2,486,648)
Net Sales	41,353,343	30,644,749	11,268,662	9,924,288
Cost of Sales	(30,386,437)	(22,508,568)	(8,355,425)	(7,181,643)
Gross Profit	10,966,907	8,136,181	2,913,238	2,742,645
Other Operating Income	49,624	39,838	(10,545)	(7,795)
	11,016,531	8,176,019	2,902,693	2,734,850
Distribution Cost	(2,816,163)	(1,930,619)	(776,422)	(525,772)
Administrative Cost	(1,836,088)	(1,516,915)	(644,735)	(530,621)
Other Operating Expenses	(243,959)	(138,240)	(42,234)	(56,195)
Finance Cost	(2,928,230)	(2,860,381)	(831,328)	(889,866)
Share of profit/(loss) of associate	42	(474)	(282)	(41)
Profit/ (loss) Before Taxation	3,192,132	1,729,390	607,691	732,355
Provision for Taxation	(1,329,561)	(783,051)	(160,683)	(314,609)
Profit/ (loss) after Taxation	1,862,571	946,339	447,008	417,746
Earnings per share basic & diluted	2.14	1.07	0.51	0.48

The annexed notes 1 to 20 form an integral part of these interim financial statements.

M. MURAD SAIGOL
Chief Executive Officer

M. ZEID YOUSUF SAIGOL
Director

SYED MANZAR HASSAN
Chief Financial Officer

Statement of Changes in Equity

FOR THE NINE MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Un-Audited)

	Issued, Subscribed and paid up Capital	Capital reserves		Revenue reserves	Total
		Share premium	Revaluation reserve	Retained Earnings	
				Rupees '000'	
Balance as at January 1, 2023	9,009,697	5,610,856	4,785,124	19,552,222	38,957,899
Profit for the period	-	-	-	946,339	946,339
Other comprehensive loss	-	-	(6,791)	-	(6,791)
Incremental depreciation	-	-	(155,516)	155,516	-
Balance as at September 30, 2023	9,009,697	5,610,856	4,622,817	20,654,077	39,897,447
Total comprehensive income for the period	-	-	-	378,750	378,750
Other comprehensive loss	-	-	1,149,014	-	1,149,014
Incremental depreciation	-	-	(34,542)	34,542	-
Share deposit money received	-	-	-	-	-
Balance as at December 31, 2023	9,009,697	5,610,856	5,737,289	21,067,369	41,425,211
Profit for the period.	-	-	-	1,862,571	1,862,571
Incremental depreciation	-	-	(148,932)	148,932	-
Balance as at September 30, 2024	9,009,697	5,610,856	5,588,357	23,078,872	43,287,782

The annexed notes 1 to 20 form an integral part of these interim financial statements.

M. MURAD SAIGOL
Chief Executive Officer

M. ZEID YOUSUF SAIGOL
Director

SYED MANZAR HASSAN
Chief Financial Officer

Cash Flow Statement

FOR THE NINE MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Un-Audited)

	September 30, 2024	September 30, 2023
	Rupees '000'	Rupees '000'
Cash flows from operating activities		
Profit/(Loss) before taxation	3,192,132	1,729,390
Adjustments for:		
Adjustments for non cash items and others	3,730,844	3,755,056
Cash generated from operations before working capital changes	6,922,976	5,484,446
Working capital changes	(1,580,650)	7,245,096
Cash generated from operations	5,342,326	12,729,542
Finance cost paid	(2,778,178)	(2,792,618)
Income tax paid	(998,268)	(422,829)
Payment of interest and taxes	(3,776,446)	(3,215,447)
Net cash used in operating activities	1,565,880	9,514,095
Cash flows from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(1,408,742)	(1,119,309)
Purchase of intangible assets	-	(755)
Proceeds from disposal of property, plant and equipment	44,458	34,086
Advance for capital expenditure	(14,464)	(52,500)
(Increase) / decrease in long-term deposits and advances	(109,979)	(48,767)
Net cash used in investing activities	(1,488,727)	(1,187,245)
Cash flows from financing activities		
Redemption of Redeemable capital	-	(1,500,000)
Long Term Finances obtained	-	12,500
Repayment of Long Term Finances	(1,595,674)	(1,699,929)
Increase/ (Decrease) in liabilities against finance lease	3,412	(27,348)
Increase / (Decrease) in Short Term Borrowing	1,750,859	(5,302,467)
Dividend paid	(329)	(9)
Net cash from financing activities	158,268	(8,517,253)
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	235,421	(190,403)
Cash and cash equivalents at beginning of the period	784,116	796,081
Cash and cash equivalents at end of the period	1,019,537	605,678

The annexed notes 1 to 20 form an integral part of these interim financial statements.

M. MURAD SAIGOL
Chief Executive Officer

M. ZEID YOUSUF SAIGOL
Director

SYED MANZAR HASSAN
Chief Financial Officer

Notes to the Condensed Interim Financial Statements

FOR THE NINE MONTHS PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (Un-Audited)

1 LEGAL STATUS AND OPERATIONS

Pak Elektron Limited ['the Company'] was incorporated as a Public Limited Company in Pakistan under the repealed Companies Act, 1913 on 03 March 1956. Registered office of the Company is situated in the province of Punjab at 17 - Aziz Avenue, Canal Bank, Gulberg - V, Lahore. The manufacturing facilities of the Company are located at 34 K.M., Ferozpur Road, Keath Village, Lahore and 14 K.M., Ferozpur Road, Lahore. The Company is listed on Pakistan Stock Exchange Limited. The principal activity of the Company is manufacturing and sale of electrical capital goods and domestic appliances.

The Company is currently organized into the following operating divisions:

- (i) **Power Division:** Manufacturing and sale of Transformers, Switchgears, Energy Meters and Engineering, Procurement and Construction ['EPC'] contracting.
- (ii) **Appliances Division:** Manufacturing, assembling and distribution/sale of Refrigerators, Deep Freezers, Air Conditioners, Microwave Ovens, LED Televisions, Washing Machines, Water Dispensers and other domestic appliances.

2 BASIS OF PREPARATION

These interim financial statements are un audited and have been presented in condensed form and do not include all the information as is required to be provided in a full set of annual financial statements. These interim financial statements should be read in conjunction with the annual audited financial statements of the company for the year ended December 31, 2023.

The comparative interim balance sheet as at December 31, 2023 and the related notes to the condensed interim financial information are based on audited financial statements. The comparative interim profit and loss account, interim cash flow statement, interim statement of changes in equity and related notes to the condensed interim financial information for nine months ended September 30, 2023 are based on unaudited interim financial information.

2.1 Statement of compliance

These condensed interim financial statements have been prepared in accordance with the accounting and reporting standards as applicable in Pakistan for interim financial reporting. The accounting and reporting standards as applicable in Pakistan for interim financial reporting comprises of:

International Accounting Standard 34- Interim Financial Reporting, issued by International Accounting Standards Board (IASB) as notified under the companies Act, 2017 and

Provisions of and directives issued under the Companies Act, 2017.

Where the provisions of and directive issued under the companies Act, 2017 differ with the requirements of IAS 34, the provisions of and directives issued under the companies Act, 2017 have been followed.

2.2 Basis of measurement

These interim financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following items, which are measured on an alternative basis as at the reporting date.

Items	Measurement basis
Financial liabilities	Amortized cost
Financial assets	Fair value/amortized cost
Investment in associate	Equity method
Land, building, plant and machinery	Revalued amounts
Warranty obligations	Present value

2.3 Judgements , estimates and assumptions

The preparation of interim financial statements requires managements to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and associated assumptions and judgements are based on historical experience and various other factors that are believe to be reasonable under the circumstances , the result of which forms the basis of making judgements about carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimated are recognised in the period in which the estimated is revised and in any future periods affected.

3 Functional currency

This financial information is prepared in Pak Rupees which is the Group's functional currency.

4 Accounting Policies And Methods Of Computation

The accounting policies and the methods of computation adopted in the preparation of these interim financial statements are the same as those applied in the preparation of preceding annual financial statements of the company for the year ended December 31, 2023.

5 Date of Authorization For Issue

These interim financial statements have been approved by the Board of Directors of the company and authorized for issue on October 17, 2024.

6 AUTHORIZED CAPITAL

September 30, 2024	December 31, 2023		Un-audited September 30, 2024	Audited December 31, 2023
No. of Shares	No. of Shares		Rupees '000'	Rupees '000'
1,000,000,000	1,000,000,000	Ordinary shares of Rs. 10 each	10,000,000	10,000,000
		Preference shares of Rs. 10 each:		
62,500,000	62,500,000	Class A preference shares of Rs 10 each	625,000	625,000
37,500,000	37,500,000	Class B preference shares of Rs 10 each	375,000	375,000
100,000,000	100,000,000		1,000,000	1,000,000
1,100,000,000	1,100,000,000		11,000,000	11,000,000

7 ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP CAPITAL

September 30, 2024	December 31, 2023		Un-audited	Audited
			September 30, 2024	December 31, 2023
No. of shares	No. of shares		Rupees '000'	Rupees '000'
		Ordinary shares of Rs. 10 each fully paid		
731,081,721	731,081,721	In cash	7,310,817	7,310,817
		Other than cash:		
137,500	137,500	-against machinery	1,375	1,375
		-issued on acquisition of PEL Appliances Limited		
408,273	408,273	-issued against conversion of preference shares	4,083	4,083
6,040,820	6,040,820	-as bonus shares	60,408	60,408
118,343,841	118,343,841		1,183,438	1,183,438
856,012,155	856,012,155		8,560,122	8,560,122
		Fully paid A class preference shares of Rs. 10 each		
44,957,592	44,957,592	In cash	449,576	449,576
900,969,747	900,969,747		9,009,697	9,009,697

8 REDEEMABLE CAPITAL

At beginning of the year	-	1,500,000
Issued during the period	-	-
Paid during the period	-	1,500,000
Current maturity presented under current liabilities	-	-
At end of the year	-	-

9 LONG-TERM FINANCES

As at beginning of the period	3,556,091	5,676,676
Obtained during the period	-	-
Repayments made during the period	1,595,674	2,120,585
Current maturity presented under current liabilities	1,413,332	1,895,882
	547,085	1,660,209

10 LEASE LIABILITIES

Present value of minimum lease payments	95,204	91,792
Current maturity	45,621	57,355
	49,583	34,437

11 SHORT TERM BORROWINGS

These facilities have been obtained from various banks under mark-up arrangements for working capital requirements. These facilities are secured against the pledge/hypothecation of raw material and components, work-in-process, finished goods, machinery, spare parts, charge over book debts, charge over current assets and personal guarantees of the sponsoring directors of the company.

12 CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

There is no material changes in contingencies and commitments as disclosed in the notes to the financial statements for the year ended December 31, 2023.

		(Un-Audited) September 30, 2024	(Audited) December 31, 2023
	Note	Rupees '000'	Rupees '000'
13 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT			
Operating assets	13.1	24,906,372	23,816,466
Capital work-in-progress		3,671,856	2,655,529
		28,578,228	26,471,995
13.1 Operating assets			
Written down value at beginning of the period / year		25,508,463	22,909,985
Additions during the period / year	13.1.1	371,994	2,141,480
		25,880,457	25,051,465
Written down value of the assets disposed off / adjustments		29,417	33,843
Depreciation charged during the period / year		965,089	1,245,048
Rental Properties		20,421	43,892
		24,906,372	23,816,466
13.1.1 Additions during the period / year			
Land		-	-
Building		41,212	1,236,446
Plant and machinery		244,978	830,272
Office equipment and furniture		27,148	27,364
Computer hardware and allied items		47,278	38,574
Vehicles		11,378	8,824
		371,994	2,141,480

		(Un-Audited) September 30, 2024	(Audited) December 31, 2023
	Note	Rupees '000'	Rupees '000'
14 LONG-TERM INVESTMENTS			
Kohinoor Power Company Limited 2,910,600 shares (December 31,2021. 2,910,600 shares) of Rs. 10 each- Relationship: Associate Ownership interest 23.10 %	14.1	19,821	19,268
		19,821	19,268
14.1 Investment in associate at cost - Quoted			
Cost of investment		54,701	54,701
Share of post acquisition losses		(15,161)	(15,161)
		39,540	39,540
Accumulated impairment		(19,719)	(20,272)
		19,821	19,268

14.2 This represents investment in ordinary shares of Kohinoor Power Company Limited ['KPCL'], an associate. KPCL is a Public Limited Company incorporated in Pakistan under the repealed Companies Ordinance, 1984 and is listed on Pakistan Stock Exchange Limited. KPCL was formed with the objective of generation and sale of electric power. Subsequently, it amended its memorandum of association to change its principal activity to leasing out machinery and buildings under operating lease arrangements. The Boards of Directors of KPCL and Saritow Spinning Mills Limited ['SSML'], a related party of the Company, in their respective meetings have approved amalgamation of KPCL into SSML. The proposed amalgamation, once affected, will result in the Company holding ordinary shares in SSML in accordance with the swap ratio approved with scheme of amalgamation. Registered office of KPCL is situated in the Province of Punjab at 17-Aziz Avenue, Canal Bank, Gulberg V, Lahore.

The investment has been accounted for by using equity method.

	Nine months ended		Three Months Period ended	
	September 30, 2024	September 30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023
	Rupees '000'	Rupees '000'	Rupees '000'	Rupees '000'
15 REVENUE				
Contract revenue	-	26,334	-	12,463
Sales - local	52,953,610	37,863,278	13,597,024	12,378,384
Sales - export	1,812,574	264,993	1,306,853	20,089
	54,766,184	38,154,605	14,903,877	12,410,936
Less: - sales tax	8,243,461	5,753,218	2,250,721	1,887,960
- trade discounts	5,169,380	1,756,638	1,384,494	598,688
	13,412,841	7,509,856	3,635,215	2,486,648
	41,353,343	30,644,749	11,268,662	9,924,288

	Nine months ended		Three Months Period ended	
	September 30, 2024	September 30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023
	Rupees '000'	Rupees '000'	Rupees '000'	Rupees '000'
16 COST OF SALES				
Raw material consumed	26,947,266	19,109,444	8,198,281	7,344,605
Direct wages	924,443	762,951	321,093	252,297
Factory overhead	2,442,036	2,000,188	886,757	661,924
Raw material, wages and FOH	30,313,745	21,872,583	9,406,131	8,258,826
Work-in-process				
-at beginning of period	1,403,957	1,417,998	1,282,789	1,727,901
-at end of period	(1,635,231)	(1,519,424)	(1,635,231)	(1,519,424)
	(231,274)	(101,426)	(352,442)	208,477
Cost of goods manufactured	30,082,471	21,771,157	9,053,689	8,467,303
Finished goods				
-at beginning of period	2,621,666	3,538,846	1,619,436	1,529,366
-at end of period	(2,317,700)	(2,827,237)	(2,317,700)	(2,827,237)
	303,966	711,609	(698,264)	(1,297,871)
	30,386,437	22,482,766	8,355,425	7,169,432
Contract cost	-	25,802	-	12,211
Cost of sales	30,386,437	22,508,568	8,355,425	7,181,643

17 EARNINGS PER SHARE - BASIC AND DILUTED

The calculation of basic and diluted profit per ordinary share is based on the following data:

	(Un-Audited) September 30, 2024	(Audited) December 31, 2023
	Rupees '000'	Rupees '000'
Profits for the period	1,862,571	946,339
Less: dividend payable on preference shares	32,032	32,032
Profit attributable to ordinary shares	1,830,538	914,307
Number of shares	(Number)	
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic profit	856,012,155	856,012,155
Basic earnings per share (Rupees)	2.14	1.07

18 TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Related parties from the company's perspective comprise associated companies, post employment benefit plans and key management personnel. Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company, directly or indirectly, and includes the Chief Executive and Directors of the Company.

Transactions with key management personnel are limited to payment of short term employee benefits only. The company in the normal course of business carries out various transactions with other related parties and continues to have a policy whereby all such transactions are carried out on commercial terms and conditions which are equivalent to those prevailing in an arm's length transaction.

Details of transactions and balances with related parties is as follows:

		Un-audited September 30, 2024	Un-audited September 30, 2023
		<i>Rupees '000'</i>	<i>Rupees '000'</i>
Relationship	Nature of transaction		
Provident Fund Trust	Contribution for the period	85,171	68,486
Associated company	Services acquired	5,481	31,637
Key Management Personnel	Short-term employee benefits	36,816	36,852
	Post employment benefits	1,658	1,494

18.1 All transactions with related parties have been carried out on commercial terms and conditions.

19 GENERAL

19.1 Figures have been rounded off to the nearest thousands.

19.2 Comparative figures have been rearranged and reclassified, where necessary for the purpose of comparison. However there were no significant reclassification during the year.

20 OTHERS

There are no other significant activities since December 31, 2023 affecting this condensed interim financial information.

M. MURAD SAIGOL
Chief Executive Officer

M. ZEID YOUSUF SAIGOL
Director

SYED MANZAR HASSAN
Chief Financial Officer

WWW.PEL.COM.PK

PAK ELEKTRON LIMITED

17-Aziz Avenue, Canal Bank,
Gulberg-V, Lahore.

Ph: (042) 35718274-5, 35717364-5